

Tit

Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν
پولس غلام خدا-کا رسول لیکن یسوع مسیح-کا مطابق ایمان چنے-ہوئوں-کے
[G3972](#) [G1401](#) [G2316](#) [G0652](#) [G1161](#) [G2424](#) [G5547](#) [G2596](#) [G4102](#) [G1588](#)

Θεοῦ, καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας, τῆς κατ' εὐσέβειαν;
خدا-کے اور پہچان سچائی-کی جو مطابق دینداری-کے
[G2316](#) [G2532](#) [G1922](#) [G0225](#) [G3588](#) [G2596](#) [G2150](#)

کی زندگی ترس خدا اور لانے ایمان میں تاکہ گیا بھیجا کر چن مجھے ہے۔ رسول کا مسیح عیسیٰ اور خادم کا اللہ جو ہے سے طرف کی پولس خط یہ کروں۔مدد کی لوگوں ہوئے چنے کے اللہ میں لینے جان سچائی

2 ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἄψευδης, Θεός, πρὸ
پر امید زندگی-کی ابدی جس وعدہ-کیا وہ جھوٹ-نہ-بولنے-والا خدا سے-پہلے
[G1909](#) [G1680](#) [G2222](#) [G0166](#) [G3739](#) [G1861](#) [G3588](#) [G0893](#) [G2316](#) [G4253](#)

χρόνων αἰώνων;
زمانوں کے ابدی-کے
[G5550](#) [G0166](#)

جھوٹ وہ اور تھا۔ کیا ہی پیشتر سے زمانوں کے دنیا نے اللہ وعدہ کا جس کی زندگی ایسی ہے، جاتی دلائل امید کی زندگی ابدی انہیں سے اس کیونکہ بولتا۔نہیں

3 ἐφάνερωσεν δὲ, καιροῦς ἰδίους, τὸν λόγον αὐτοῦ, ἐν κηρύγματι ὁ
ظاہر-کیا لیکن وقتوں-میں اپنے کو کلام اُس-کا میں منادی جو
[G5319](#) [G1161](#) [G2540](#) [G2398](#) [G3588](#) [G3056](#) [G0846](#) [G1722](#) [G2782](#) [G3739](#)

ἐπιστεύθη ἐγὼ, κατ' ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, Θεοῦ;
سونپی-گئی مجھے مطابق حکم کے نجات-دہندہ ہمارے خدا-کے
[G4100](#) [G1473](#) [G2596](#) [G2003](#) [G3588](#) [G4990](#) [G1473](#) [G2316](#)

کے حکم کے اللہ دہندہ نجات ہمارے اسے میں اور ہے گیا کیا سپرد میرے اعلان یہی دیا۔ کر ظاہر اُسے کے کر اعلان کا کلام اپنے نے اللہ پر وقت مقررہ اپنے ہوں۔سناتا مطابق

4 Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ, κατὰ κοινὴν πίστιν: χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ
ٹٹس-کو سچے بیٹے-کو مطابق مشترک ایمان-کے فضل اور سلامتی سے خدا
[G5103](#) [G1103](#) [G5043](#) [G2596](#) [G2839](#) [G4102](#) [G5485](#) [G2532](#) [G1515](#) [G0575](#) [G2316](#)

Πατρὸς, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.
باپ-سے اور مسیح یسوع وہ نجات-دہندہ ہمارا
[G3962](#) [G2532](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4990](#) [G1473](#)

سلامتی اور فضل کو آپ عیسیٰ مسیح دہندہ نجات ہمارا اور باپ خدا ہے۔ بیٹا حقیقی میرا مطابق کے ایمان مشترکہ ہمارے جو ہوں رہا لکھ کو طُطُس میں کریں۔عطا

5 Τούτου χάριν, ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ,
اس-لیے واسطے میں-نے-چھوڑا تجھے میں میں کریت تاکہ جو باقی درست-کرے
[G3778](#) [G5484](#) [G0620](#) [G4771](#) [G1722](#) [G2914](#) [G2443](#) [G3588](#) [G3007](#) [G1930](#)

καὶ καταστήσῃ κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγὼ σοὶ διαταξάμην,
اور مقرر-کرے مطابق شہر بزرگوں-کو جیسے میں تجھے حکم-دیا
[G2532](#) [G2525](#) [G2596](#) [G4172](#) [G4245](#) [G5613](#) [G1473](#) [G4771](#) [G1299](#)

میں جماعت کی شہر ہر آپ کہ تھا مقصد ایک بھی یہ تھیں۔ گئی رہ تک اب جو کریں درست کمیاں وہ آپ کہ تھا چھوڑا لئے اس میں کریتے کو آپ نے میں تھا۔ کہا کو آپ نے میں طرح جس کریں، مقرر بزرگ

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 6 | εἶ اگر G1487 | τίς کوئی G5100 | ἐστίν ہو G1510 | ἀνέγκλητος, ہے-الزام G0410 | μῖς ایک G1520 | γυναικός بیوی-کا G1135 | ἀνὴρ, شوہر G0435 | τέκνα بچے G5043 | ἔχων رکھتا-ہو G2192 | πιστά, ایماندار G4103 | μη نہ G3361 |
| | ἐν میں G1722 | κατηγορία الزام G2724 | ἀσωτίας بدچلنی-کے G0810 | ἢ یا G2228 | ἀνυπότακτα. سرکش G0506 | | | | | | |

سکیں۔ لگا نہ الزام کا ہونے سرکش یا عیاش پر اُن لوگ اور ہوں دار ایمان بچے کے اُس ہو۔ بیوی ایک صرف کی اُس ہو۔ ہے الزام بزرگ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | δεῖ چاہیے G1163 | γὰρ کیونکہ G1063 | τὸν کو G3588 | ἐπίσκοπον نگران G1985 | ἀνέγκλητον ہے-الزام G0410 | εἶναι, ہونا G1510 | ὡς جیسے G5613 | Θεοῦ خدا-کے G2316 | οἰκονόμον; مختار G3623 | μη نہ G3361 |
| | αὐθάδη, اکڑ G0829 | μη نہ G3361 | ὀργίλον, ظدی G3711 | μη نہ G3361 | πάροιον, شرابی G3943 | μη نہ G3361 | πλήκτην, مارنے-والا G4131 | μη نہ G3361 | αἰσχροκερδῆ; ناجائز-نفع-کا-لالچی G0146 | |

ہو۔ نہ لالچی یا لڑاکا شرابی، غصیلا، خودسر، وہ ہو۔ ہے الزام وہ کہ ہے لازم لئے اس ہے، گئی دی داری ذمہ کی سنبھالنے گھرانہ کا اللہ تو کو نگران

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 8 | ἀλλὰ بلکہ G0235 | φιλόξενον, مہمان-نواز G5382 | φιλάγαθον, نیکی-دوست G5358 | σώφρονα, سمجھدار G4998 | δίκαιον, راستباز G1342 | ᾧσιον, پاک G3741 | ἐγκρατῆ; ضبط-والا G1468 | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|

سکے۔ رکھ قابو پر آپ اپنے وہ ہو۔ مقدس اور باز راست دار، سمجھ وہ ہو۔ والا کرنے پیار سے چیزوں اچھی سب اور ہو نواز مہمان وہ بجائے کے اس

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 9 | ἀντεχόμενον پکڑنے-والا G0472 | τοῦ, کے G3588 | κατὰ مطابق G2596 | τὴν کی G3588 | διδαχὴν, تعلیم G1322 | πιστοῦ قابل-اعتماد G4103 | λόγου, کلام-کو G3056 | ἵνα تاکہ G2443 | δυνατὸς قابل G1415 | ἢ ہو G1510 | καὶ بھی G2532 |
| | παρακαλεῖν نصیحت-کرنے-کے G3870 | ἐν میں G1722 | τῇ وہ G3588 | διδασκαλία تعلیم G1319 | τῇ وہ G3588 | ὑγιαίνουσα, صحیح G5198 | καὶ اور G2532 | τοὺς کو G3588 | ἀντιλέγοντας مخالفوں-کو G0483 | | |
| | ἐλέγχειν. قائل-کرنے-کے G1651 | | | | | | | | | | |

حوصلہ کی دوسروں کر دے تعلیم بخش صحت وہ ہی طرح اس کیونکہ ہے۔ مطابق کے تعلیم ہماری اور اعتماد قابل جو رہے لپنا ساتھ کے کلام اُس وہ گا۔ سکے بھی سمجھا کو والوں کرنے مخالفت اور گا سکے کر افزائی

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 10 | Εἰσὶν ہیں G1510 | γὰρ کیونکہ G1063 | πολλοὶ بہت-سے G4183 | «καὶ» اور G2532 | ἀνυπότακτοι, سرکش G0506 | ματαιολόγοι, بکواسی-باز G3151 | καὶ اور G2532 | φρεναπάται, فریبی G5423 | μάλιστα خاص-طور-پر G3122 | | |
| | οἱ وہ G3588 | ἐκ سے G1537 | τῆς کے G3588 | περιτομῆς, ختنے-کے G4061 | | | | | | | |

جو ہے آتی صادق پر اُن کر خاص بات یہ ہیں۔ دیتے دھوکا کو دوسروں کے کر باتیں فضول جو ہیں، سرکش جو ہیں لوگ ایسے سے بہت کہ ہے یہ بات ہیں۔ سے میں یہودیوں

11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες ἃ
 جنہیں چاہیے چُپ-کرانا جو پورے گھرانے الٹ-دیتے-ہیں سکھاتے-ہوئے جو
[G3739](#) [G1163](#) [G1993](#) [G3748](#) [G3650](#) [G3624](#) [G0396](#) [G1321](#) [G3739](#)

μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν.
 نہیں چاہیے شرمناک نفع واسطے-کے
[G3361](#) [G1163](#) [G0150](#) [G2771](#) [G5484](#)

ہیں۔ رہے کر خراب سے تعلیم غلط اپنی گھر پورے کے لوگوں کئی کر آ میں لالچ یہ کیونکہ جائے، دیا کرا چپ انہیں کہ ہے لازم

12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν, προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ
 کہا کسی-نے سے ان-میں اپنا ان-کا نبی کریتی ہمیشہ جھوٹے بُرے
[G3004](#) [G5100](#) [G1537](#) [G0846](#) [G2398](#) [G0846](#) [G4396](#) [G2912](#) [G0104](#) [G5583](#) [G2556](#)

θηρία, γαστέρες ἀργαί.
 جانور پیٹ سست
[G2342](#) [G1064](#) [G0692](#)

ہیں۔ بوتے پیٹو سست اور جانور وحشی والے، بولنے جھوٹ ہمیشہ باشندے کے کریتے ہے، کہا نے نبی ایک اپنے کے ان

13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής; δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς
 یہ گواہی یہ ہے سچ اس-لیے جس وجہ-سے ڈانٹ انہیں
[G3588](#) [G3141](#) [G3778](#) [G1510](#) [G0227](#) [G1223](#) [G3739](#) [G0156](#) [G1651](#) [G0846](#)

ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,
 سختی-سے تاکہ صحیح-ہوں میں وہ ایمان-میں
[G0664](#) [G2443](#) [G5198](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4102](#)

رہے مند صحت ایمان کا ان تاکہ سمجھائیں سے سختی انہیں آپ کہ ہے لازم سے وجہ اس ہے۔ درست گواہی یہ کی اس

14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαίκοις μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων, ἀποστρεφομένων
 نہ توجہ-دیں یہودی کہانیوں-کو اور حکموں-کو لوگوں-کے منہ-موڑنے-والوں-کے
[G3361](#) [G4337](#) [G2451](#) [G3454](#) [G2532](#) [G1785](#) [G0444](#) [G0654](#)

τὴν ἀλήθειαν.
 سے سچائی
[G3588](#) [G0225](#)

ہیں۔ گئے ہٹ سے سچائی جو دیں نہ دھیان پر احکام کے انسانوں ان یا کہانیوں فرضی یہودی وہ اور

15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαρῶς; τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις, οὐδὲν
 سب پاک کے-لیے پاکوں-کے کے-لیے لیکن ناپاکوں-کے اور ہے-ایمانوں-کے کچھ-نہیں
[G3956](#) [G2513](#) [G3588](#) [G2513](#) [G3588](#) [G1161](#) [G3392](#) [G2532](#) [G0571](#) [G3762](#)

καθαρόν; ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς, καὶ ἡ συνείδησις.
 پاک بلکہ ناپاک-ہے ان-کی بھی وہ عقل اور وہ ضمیر
[G2513](#) [G0235](#) [G3392](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3563](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4893](#)

کا ان اور ذہن کا ان بلکہ ہوتا نہیں پاک بھی کچھ لئے کے ان ہیں خالی سے ایمان اور ناپاک جو لیکن ہے۔ پاک کچھ سب لئے کے ان ہیں صاف پاک لوگ جو ہیں۔ گئے ہو ناپاک دونوں ضمیر

16 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι; τοῖς δὲ ἔργοις, ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες
 خدا-کو ہیں اقرار-کرتے-ہیں لیکن جاننے-کا اور کاموں-سے انکار-کرتے-ہیں نفرت-انگیز ہوتے-ہوئے
[G2316](#) [G3670](#) [G1492](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2041](#) [G0720](#) [G0947](#) [G1510](#)

καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, ἀδόκιμοι.
 اور نافرمان اور لیے ہر کام اچھے ناپاک
[G2532](#) [G0545](#) [G2532](#) [G4314](#) [G3956](#) [G2041](#) [G0018](#) [G0096](#)

ہیں۔ نہیں قابل کے کرنے کام اچھا بھی کوئی اور نافرمان گھنوںے، یہ ہیں۔ کرتی انکار کا بات اس حرکتیں کی ان لیکن ہیں، کرتے تو دعویٰ کا جاننے کو اللہ یہ